

رمضانِ را

وشن آتکئے گُشے



25-May-2017

ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہونے والا
سنتوں بھرا بیان

(For Islamic Brothers)

رمضانِ راوشِ آتکے گُشے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رمضانِ راوشِ آتکے گُشے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

تَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(ترجمہ: من سنتِ اعتکافِ نیتِ کُرتا)

چوں شامِ مسجدِ تہا داخلِ بے، یادِ آغِ وقتِ نفلیِ اعتکافِ نیتِ کنے، جب تک مسجدِ تہا بیسوں، نفلیِ اعتکافِ ثوابِ ملی اور ضمناً مسجدِ تہا ورغ اور واپ کنغ بہ جائز بی روی۔

دردِ شریفِ فضیلت

سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ۔ فرمانِ رحمتِ نشانِ استیں: ہر کسے مئی سرادردِ پاکِ وانی، ہما نہی درودِ پاکِ مئی تکِ رسی، من ہما نہی واسطہ استغفارِ کنگاں اور اشیا شہِ سوا اشی واسطہ

دہ (10) نیکی کجا بیسنت۔ (معجمِ اوسط، من اسمہ احمد، ۱/۴۴۶، رقم: ۱۶۴۲)

گندے کئے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پاتا تم پہ کرووں درود
(حدائقِ بخشش، ص ۲۷۰)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْ مُحَمَّدٍ

وشیں و شیں اسلامی براتوں! بیائے بیانِ اہمگنا شہِ بیشترِ شرینِ شرینِ نیتاں کنوں۔ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ "نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ حَبِيرٌ مِّنْ عَمَلِهِ" مسلمانِ نیتِ اشی عملِ شہِ شر استیں۔

(المعجم الكبير للطبراني، باب السين، سهل بن سعد الساعدي الحديث: 5942، ج 6، ص 185)

رمضانَ را وش آتکے گُشے

دومنی پل (1) بغیر شریں نیتِ کوئی بہ عملِ خیرِ ثواب نہ ملی۔

(2) ہرچی شریں نیت زیادہ اتر ثواب بہ زیادہ۔

بیانِ اشکنغے نیت

چماں جاہلا کنا باز توجہ گوں بیانِ اشکنماں، بجائے ٹیک جنغے علمِ دینِ تعظیمِ خاطر جب تک ممکن بوت دوزانوں بیانِ ننداں۔ ضرور تا دومیانی واسطہ جگہ کُشادہ کناں۔ دھکو وغیرہ ماناکت تہ صبر کناں۔ زہرا گوں چارغہ شہ، دھڑ کوآنی دیغاشہ بچنے کوشش کناں۔ **صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْبِ! اذْکُرْ اللّٰهَ. تُوْبُوا اِلَی اللّٰه!** وغیرہ اشکنغا گوں ثواب کمانغے اور صدا جنغ والائے دل جوئی خاطر مزین آواز گوں جواب دیاں۔ بیانِ شہ رندوت اگیاں سلام کنا دست ملائناں اور انفرادی کوشش کناں۔

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ**

وشیں وشیں اسلامی براتاں! رمضان المبارک بہ آمد آمد استیں، رمضان مہینہ بہ چے شان استیں، اشیء تہ ہر لمحہ رحمت شہ بھر پور استیں۔ اے مہینہ تہا اجر و ثواب بہ بازی روی، نفلِ ثواب فرضِ برابر اور فرضِ ثواب 70 مرتبہ بازکنغ بی، اے مبارکیں مہینہ ہر روج اور ہر شپ تہا رحمت استنت، اللہ عَزَّوَجَلَّ ماراے مہینہ تہا خوب خوب فیضیاب بنغ توفیق بہ عطا فرمائی، اے کاش! ماکل روچنغاں ظاہری و باطنی اور خشوع و خضوع گوں فرضیں نمازاں، نفلان و نماز تراویح کنغ تہا کامیاب یسوں تلاوت کنغ خوب جذبہ ملی۔ امین بجاہ التبی الامین **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**

دعوتِ اسلامی، اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، مطبوعہ کتاب۔۔ فیضانِ فاروق اعظم **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ** جلد 2 صفحہ نمبر 70 سر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ** رمضان المبارک تہا

رمضانَ را وش آتکے گُشے

نیکیاں ترغیبِ سرِ مشتملیں یک ایمان افروزیں خطبہ موجود استیں۔ بیائے آل خطبہ اُمکنوں اور خوب خوب نیکیاں کننا رمضان المبارک راوش آتکے گُشوں، چنانچہ

رمضانِ استقبالِ سرایک نصیحت آموزیں خطبہء

حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم جُسنی رَحِمَی اللہُ تَعَالَى عَنْہُ شہ روایت استیں کہ چون رمضان المبارکِ مہینا آتک تہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَحِمَی اللہُ تَعَالَى عَنْہُ یک مرتبہ رمضان المبارکِ اولیں شپِ مغربِ نماز شہ رند مردماں را نصیحت آموزیں خطبہ دیا نا ارشاد فرمائنتا: اے مردماں! بے شک اے مہیناِ روحِ شمائے سرفرض بوتغت، البتہ اشی تہا نفلانی اداکنغ فرض نئیں، لہذا ہر کسے نفلان ادا کُرت کنت تہ اداکنت بچھے کہ اے ہماں بہترینیں نفل استنت ہماہانی متعلق کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائنتا اور ہر کسے نفلان ادا نہ کُرت کنغیں ہماہنیا ر الوئی کہ واب کنت۔ شمائے تہا ہر یکے اے گپ گُشنا ٹوسی کہ فلال روحِ ایر کنت تہ من ایر کناں اور فلال نفلان اداکنت تہ من بہ کناں۔ ہر کسے بہ روح ایر کنت یا نفلان اداکنت اللہ عَزَّوَجَلَّ رضا خاطر کنت۔ شمائے تہا ہر شخص را اے معلوم بی کہ اتر آل نمازِ انتظارِ تہا استیں در حقیقت نمازِ تہا استیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ لوغ فضولیں گپانی کنغ شہ بچھے کوشش کنے۔ گڈ حضرت سیدنا عمر رَحِمَی اللہُ تَعَالَى عَنْہُ 3 مرتبہ چون ارشاد فرمائنتا: خبر ادا شمائے تہا کوئی بہ اے مہینا فضول نہ کُذاری، اتر انوخ (ماہ) رانہ چارے روحِ نہ ایر کنے اگر نوخ (ماہ) (Moon) مشکوک بی تہ 30 روحِ مکمل کنے اور اتر اروح نہ ایر کپی آل وقت تہ افطار نہ کنے۔ (فیضانِ فاروقِ اعظم، ۷۰/۲)

اے عاشقانِ رمضان! شہا اشکرتا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رَحِمَی اللہُ تَعَالَى عَنْہُ رمضانِ اہمیت و فضیلت شہ چتر واقف است اور اے نورانی مہیناگوں چتر عقیدت و محبت کنغ، چون اے مبارکیں مہینا آمدِ بیغ تہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رَحِمَی اللہُ تَعَالَى عَنْہُ باز خوش بیغ اور نہ صرف وت نیکیاں تہا مشغول بیغ

رمضانَ را وش آتکئے گُشے

بلکہ مسلماناں را بہ اے مقدسین مہیناءِ تہا اخلاص گوں باز نفعی عبادت کُنگِ ترغیب دلائغ اور رمضانِ آغ گوں مسجدان را روشن کُنگِ فاروقِ اعظم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ مبارکیں معمولاتانی تہا شامل است چوں کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق ہدانی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمائیں: امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمَ رمضانِ اولیں شپ درادرکت تہ مسجدِ سرا قدیل چمگنست اور مردُم کتاب اللہ تلاوت کُنگست۔ اے چار تو حضرت سیدنا علی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ ارشاد فرمائنتا: **تَوَدَّ اللہُ لِعِبْرَةِ قَدْرِہِ کَمَا تَوَدَّ مَسَاجِدَ اللہِ تَعَالٰی بِالْقُرْآنِ** یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ قبر اے وڑاے روشن فرمائیں چوں کہ حضرت سیدنا فاروقِ اعظم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ (رمضان المبارکِ تہا) مئے مسجدِ اقرآن گوں منور کُرتا۔ (فیضانِ فاروقِ اعظم، ۱/۷۳۵)

لذا ما را بہ لوٹی کہ ما بہ اے مقدسین مہینارا عظیم الشانیں طریقہ گوں وش آتکئے گُشغِ تیاری شروع کنوں، اشیا را فضولیں کارانی تہا یا غفلتِ تہانہ گُزاروں بلکہ اخلاص گوں نیکیں عملاں کنوں مثلاً فرائض و واجبات سنن و مستحبات نوافل زکر و اذکار تلاوت زکوٰۃ و فطرات صدقہ و خیرات عشر و عطیات تہجد و اشراق و چاشت غریبانی اور مسکینانی امداد کُنگِ شب بیداری کُنگِ توبہ و استغفار کُنگِ اور دعا و مناجات کُنگِ، درود و سلامِ کُثرت کُنگِ، حمد و نعت اور منقبت، مدنی حلقہ، فیضانِ سنتِ درس، ہفتہ وار سنتاں شہ بھر پوریں اجتماع، مدنی مذاکرانی تہا شرکت، مدنی چینل (Madani Channel) سرا انشر بیو نہیں سلسلانی چارغ اور دعوتِ اسلامیِ مختلفیں مسجدانی تہا بیو نہیں سبیں مہیناءِ یا آخری عشرہ اجتماعی اعتکاف شہ فیضیاب بیو نہیں سعادت وڑاے نیکانی تہا مشغول بے بلکہ ہر ہماں نیک و جائزیں کارانی کُنگِ کوشش کنے کہ ہماہانی تہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آئنئے محبوب صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ رضائی۔ مئے و شین و شین آقا صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ بہ اے مبارکیں مہیناءِ آغ گوں عبادت الہی تہا باز مشغول بیغ۔ چنانچہ

رمضانَ را وش آتکے گُشے

آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عِبَادَتِ وَاَسْطَہٗ تِیَارِبُوتِ

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سَیِّدَتُنَا عَائِشَةُ صَدِیْقَہٗ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا فرمائیں: چون رمضان مہینا آگے تہ کی مدنی آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہُ عَزَّوَجَلَّ ءِ عِبَادَتِ کِنِغِ وَاَسْطَہٗ تِیَارِیِ فَرْمَا نَعْ اَوْر سَجِیْیِ مَہِیْنَا مَہْرَکِیْیِ بَسْتَرَا ءِ سَرَا نَہِ اَآغْ - (درمنثور، ۱/۴۴۹) مزید فرماتے ہیں کہ چون رمضان مہینا آگے تہ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ءِ مَہْرَکِیْیِ رَنَکِ تَبْدِیْلِیِ بُوْتِ (زرد یا سُہْر) بُوْتِ، حَضُورِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَمَازِءِ کَثْرَتِ فَرْمَا نَعْ، خُوبِ دَعَا لِیِ نَعْ، اَوْر اللہُ عَزَّوَجَلَّ ءِ خُوفِ حَضُورِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سَرَا طَارِیِ بِنِغْ - (شُعْبُ الْاٰیْمَانِ، ۳ / ۳۱۰، حَدِیْثُ: ۳۶۲۵)

شَبِ بَیْدَارِیِ فَرْمَا نَعْ

امام العابدین، سید الساجدین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خیر عمر شریف تہا جیسے رکعت جلتو ادا فرمائیں اور جیسے نشو ادا فرمائیں، وتر نماز تہجد گوں ادا کیں، رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ تہا نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم باز شہ باز عبادت فرمائیں۔ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سچیں شپ بیداری فرمائیں اور لوغے کل مردماں را نماز ادا کیں۔ واسطہ بیدار فرمائیں اور عموماً اعتکاف فرمائیں۔ نمازاں گوں کدی جلتو کدی نشو اور کدی سجدہ تہا باز آہ وزاری گوں دعا فرمائیں، رمضان شریف تہا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام ءِ مَہْرَہٗ قُرْآنِ کَرِیْمِ ءِ دُورِہٗ فَرْمَا نَعْ اَوْر تِلَاوَتِ گوں مُخْتَلِفِیْنَ دَعَا نِیِ دَرْدَبَہٗ فَرْمَا نَعْ اَوْر کدی سچیں شپ نمازاں ادا فرمائیں ہے حد کہ قدم مبارک سوم گر غسنت۔ (سیرت مصطفیٰ، ص ۵۹۶ ملخصاً بتغیر)

بِرَسَائِلِ رَا عَظَا فَرْمَا نَعْ

اے ماہر کیس مہینا تہا خوب صدقہ و خیرات کیں بہ سنت استیں چنانچہ سَیِّدُنَا عَبْدِ اللہِ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا فرمائیں: چون رمضان مہینا آگے تہ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر قیدی را آزاد فرمائیں اور ہر سائل را عطا فرمائیں۔ (درمنثور، ۱/۴۴۹)

کلاں شہ مزنیں سخی

حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کل مردماں شہ باز سخی است۔ اور سخاوتِ دریا ہماں وقتِ جوشِ تھا آتک ہماں وقت کہ رمضانِ تھا جبریل عَلَيْهِ السَّلَامُ نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ گوں ملاقاتِ کُنگِ واسطہ آتک اور جبریل عَلَيْهِ السَّلَامُ رمضانِ ہر شپ ملاقاتِ واسطہ حاضر بیخ اور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمراہ قرآنِ پاکِ دور کُنگ۔ بس رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تیزیں گواں وڑا خیرِ معاملاتی تھا سخاوت فرما نغ۔ (بخاری، کتاب، باب، ۹/۱، حدیث: ۶)

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا لے کر ہم
ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

(حداائق بخشش، ص 83)

وشیں وشیں آقا کی مدنی مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غلاماں! شہا شکر ت کہ مئے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رمضانِ مہینا گوں چتر محبت است کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ چتر عظیم الشانیں طریقہ گوں اے مہینا راوش آتکے (Welcome) گُشِخ کہ چوں رمضانِ برکت والائیں مہینا پیداغ تہ عبادتِ تھا باز اضافہ فرما نغ، یقیناً نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تہ معصومانی اور عبادت گزارانی سردار استیں مگر اشئی باوجود اے مہینا شہان و عظمت اور اُمتِ تعلیمِ واسطہ سببیں مہینا بسترہ سرانہ آغ بلکہ مسلسل عبادتِ الہی تھا مشغول بیخ۔ اے کاش کہ مئے وڑا گناہگارانی تھا بہ رمضان المبارکِ اہمیت را سخی اور ما بہ اے مہینا تھا نیکیانی جمع کنوں وتارا جہنم شہ نجات دلا نغ اور جنتِ حقدار بنا نغ تھا کامیاب بیوں! بیائے اے مہینا اہمیت و فضیلت وتی دلِ تھا باز کُنگِ واسطہ اور اے مہینا تھا نیکیانی جذبہ حاصل کُنگِ

رمضانَ را وش آتکے گُشے

بیتِ گوں 2 ارشاداتِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اُٹھنے اور اے وقتِ شہِ نیکیانی واسطہ تیار کنوں۔
چنانچہ

بہترین مہینا

1 ارشاد فرماتا: شمائے سراے وڑاے مہیناے آتک کہ اشیا شہِ شریں مہیناے مومنانی سرا نہ آتک اور منافقانی سرا اشیا شہِ باز کوئی سختیں مہیناے نہ آتک بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اشی نفاں اور اشی ثوابِ پیشتر لکھیں اور کوئی شک نہیں کہ مومن ۽ تہا عبادت کُنگ ۽ قوت واپس کُنگ بی اور منافق ۽ تہا غفلت، مومن ۽ واسطہ اے مہینا غنیمت استیں اور منافق ۽ واسطہ بوجھ استیں۔ (شعب الایمان، ۳۰۴/۳، مسند احمد، ۵۲۴/۲)

کاش سب سال رمضان بی

2 ارشاد فرماتا: اگر مردماں را معلوم بی کہ رمضان چے استیں تہ معنی امت اے تمناکنت کہ کاش!
سبیں سال رمضان بی۔ (ابن خزیمہ، ۱۹۰/۳، حدیث: ۱۸۸۶)

وشیں و شیں اسلامی براتاں! معلوم بوت کہ رمضان ۽ شان و عظمت دومی مہینا شہِ باز ارفع و اعلیٰ استیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اے مہیناے تہا ہر تکا پر کیفیں مناظر استنت، مسجدانی رونق بازی، مسلمان نماز و روجع ۽ پابندی شروع کُنگت، تلاوت ۽ شوق اور عبادت ۽ ذوق بازی روی، صدقہ و خیرات گوں غریبانی مسکینانی مدد کُنگ بی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ سعادت مندیں مسلمان اے مہیناے آع گوں اشیا را غنیمت زانغت اور نیکیں کارانی تہا مشغول بیغت پچھے کہ اے ہاں مہینا استیں کہ اشی تہا نیکیں کارانی اجر و ثواب ۽ تہا اضافہ بی۔ چنانچہ

حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: رمضان المبارک میں مہینہ تہا یک روچہ روچہ ایر کنگ یک ہزار (1000) روچہ روچہ غا شہ افضل استیں، رمضان میں مہینہ تہا یک مرتبہ تسبیح کنگ یعنی (سبجن اللہ کنگ) اے مہینہ شہ علاوہ یک ہزار (1000) مرتبہ تسبیح کنگ شہ افضل استیں اور اے مہینہ تہا یک رکعت اور کنگ رمضان شہ علاوہ یک ہزار رکعتاں شہ افضل استیں۔ (درمنثور، ۱/۴۵۴)

اور بے قدرائیں مردمانی اے حال استیں کہ کہ بخشش و مغفرت شہ مالامالیں اے روحانی مہینہ را بہ دومی مہینہ بی مال و دولت اور کنگ کاروبار چکانگ اور بینک بیلنس (Bank Balance) باز کنگ لوٹ مار کنگ، پینگ بازی، کبوتر بازی، کرکٹ، ہاکی، فٹبال، ٹینس، تاش، شطرنج، لڈو، کیرم، اسنوکر، وڈیو گیمز، موبائل اور انٹرنیٹ غلط استعمال، اور بازارانی تہا فضول اے مہینہ را ضائع کنگت، خصوصاً رمضان المبارک میں آخری عشرہ کاروباری طبقہ واسطہ کوئی نعمت و غنیمت شہ کم نہیں۔ پیشی دورے مسلمانانی تہا عبادت کنگ جذبہ باز است اور آل اے مہینہ تہا کثرت گوں عبادت کنگت تاکہ آل اے مقدس مہینہ تہا باز با ثواب کمائنت، اور قرب الہی حاصل کنت۔ بیائے یک ایمان افروزیں قصائے انگنوں تاکہ مئے سستی دور بی اور عبادت کنگ شوق و ذوق نصیب بی۔ چنانچہ

عبادت گزارین خادمہ

حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: منارار رمضان میں مہینہ تہا یک خادمہ ضرورت بوت کہ آل مئے واسطہ ورگ وغیرہ تیار کنت، من بازار میں تہا یک خادمہ دیت کہ ہماں باز کم قیمت است، آہنیئے دیم زرد اور جسم کمزور اور پوست خشک است۔ مناراشی سرارحم آتک کہ تہ من اے خرید کڑ تو آرت، من گشت تو ہیرانے زیر اور منی ہمراہ رمضان میں سامان خریداری واسطہ بازارا بیا۔ تہ آہنیا گشت: اے منی آقا من تہ اے وڑا مردمانی کرا استناں کہ آہنیاں سجین زمانہ رمضان است۔ اشی اے

گپ اٹھڑ تو منارا اے اندازہ بوت کہ اے ضرور اللہ عَزَّوَجَلَّ نیکیں بندی اے استیں۔ آں سجیں شپ عبادت کُنج چوں آخری شپ اُتک تہ من اشیا ر اگشت تو مئے ہمراہ بیما عیدِ خریداری کنوں۔ تہ اشیا بُجست کُرت اے منی آقا تو امیریں مردمانی خریداری کنے یا غیر میں مردمانی؟ من گشت تو وتی گپِ وضاحت کن۔ تہ آہنیا گشت: غریبانی خریداری اے استیں کہ آں عیدِ ورگِ مشہوریں چیزاں خرید کننت، اور خاصیں مردمانی ضرورت اے استیں کہ آں مخلوق شہ جد ایمنت، خدمتِ واسطہ فارغ میمنت، نفلانی ذریعہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرب حاصل کننت، اور عاجزی و انکساری کننت۔ اے اٹھڑ تو من گشت مئی مراد ورغِ ضروری سامان استیں۔ اشیا دوبارہ بُجست کُرتا کہ چوئیں ورغ جسمِ یاد لہ واسطہ ورغ؟ من گشت تو وتی گپِ وضاحت کن۔ تہ اشیا گشت: جسمانی غذا کہ عام خوراک استیں، اور دلِ خوراک گناہاں را یدلغ استیں، وتی عیبانی دور کنغ استیں، محبوبِ دیدار گوں لطف انداز بیغ اور مقصدِ حاصل بیغ سر اراضی بیغ استیں، لیکن اے چیزانی واسطہ تکبر یدلغ، اللہ عَزَّوَجَلَّ تکار جوع کنغ اور ظاہر و باطن تہاشی سرا بھروسہ کنغ ضروری استیں۔ گڈ آں خادمہ نماز ادا کنغ شروع کُرتا، آہنیا اولیں رکعتِ تہا سورہ بقرہ وانت گڈ سورہ ال عمران شروع کُرتا، گڈ یک سورتے ختم کنغ گوں دومی سورت شروع کننا شُت اے حد شہ کہ سورہ ابراہیم اے آیت تہ رستا۔

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ
عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٥٦﴾

ترجمہ کنز الایمان: بمشکل آہنیے کے کے سُرک واڑت اور گٹ شہ جہا لایر کنغ، امید نہ بی اور آہنیا راہر طرفہ شہ موت کئے اور مری نہ آہنی رند ایک مزائیں عذابے استیں۔

رمضانَ را وش آتکے گُشے

گُذآں گریبانُشت اور آں آیتِ ءِ تکرار کننا نأشت ہے حُشہ کہ بے ہوش بو تو ذُعارِؒ سر اُپت چوں من
اشیارا حرکت دات تہ اشی روح پرواز کُرتو شُتَع۔ (اے قصہ بیان کنخ شہ رند شیخ شعیب حَرِیفِیْش رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی
عَلَيْهِ فرما مَنَّا) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ! اے ہماں مر دُوم استنت ہماں کہ وتی دیم غمِؒ انزیراں گون ششت، ذکر الہی اور کلام
باری تعالیٰ تِ تلاوت گوں شپانی تہا وتی چم بیدار کُرتغت اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ بارگاہِ تہا وتی پازانی سرا جتغت اور شریر عملائی
کوشش کنغت۔ بس اشانی ہر لمحہ رمضان المبارکِؒ مبارکیں لِحانی وُزائِ استنت۔ (حکایتیں اور نصیحتیں، ص ۹۰ بتغیر قلیل)

وشیں و شیں اسلامی براتاں! بیان کُرتغیں قصہ شہ معلوم بوت کہ پیشی زمانہؒ مردم اے مہینہؒ
حقیقتاً قدر دان استنت اور اے مہینہؒ روز و شپ را نماز ادا کنخ اور قرآنِ تلاوت کنخ اور دومی نیکیں
کارانی کنخ تہا کُزار غسنت، لہذا سستی نہ کنے بریں صحبتاں شہ جانا چوڑائے، غفلتِؒ واب شہ بیدار
میے اور صہٹ پٹ عبادتِؒ واسطہ تیار میے۔ اے سال بہ رمضان المبارک گرمیؒ موسم تہا جلوہ فرمابی،
نفس گرمیؒ شدت۔ شہ ٹُرسینی، اور روچ، تراویح، اور دیگر عبادتاں شہ مختلفیں اعذار مثلاً کاروباری
مصروفیت وغیرہ یاد دلائی سستی دلائی مگر یاد کنے! گرمیؒ شدت اور شزا اور تُنِؒ شدت ہرچی باز
محسوس بی اور اگر صبر کُرتتا تہ لَنْ هَآءِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اجر و ثواب بہ باز ملی چوں کہ منقول استیں
أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَبُّهَا یعنی افضل عبادت ہماں استیں ہماں تہا کہ تکلیف بازی۔ (تفسیر کبیر، پ ۲۹، المزل، تحت
الآیة: ۱۰، ۶۸۵/۶)

امام شَرَفُ الدِّینِ نَوَوِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرما نغیں: عبادتانی تہا مشقت اور باز خرچ کنخ گوں ثواب اور فضیلت
بازی۔ (شرح نووی، مذاہب العلماء فی تحلیل... الخ، الجزء ۴، ۱۵۲/۴)

حضرت سیدنا ابراہیم بن اُدْہَم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرما نِ معظّم استیں کہ ہر نیکیں عملے ہرچی مشکل بی قیامتِ رُوحِ
نیکیانی پلڑہ تہا تروزی بہ بی۔ (تذکرۃ الاولیاء، باب یازدہم، ذکر ابراہیم بن ادھم، ص ۹۵)

رمضانَ را وش آتکے گُشے

عاصیوں کی مغفرت کا لیکر آیا ہے پیام
جھوم جاؤ مجرمو! رمضان مہِ غُفران ہے

(وسائلِ بخشش مَرَم، ص ۷۰۶)

وشیں و شیں اسلامی براتیں! مئے بزرگانی کردار مئے واسطہ یک راہ روشن کنوئیں چیزے استیں، پھچے کہ اے خوفِ خدا مالک، نیکیانی معاملہ تھا انتہائی حریص اور مدنی ذہن ایر کنوخ استنتت عموما گسانے عمرء تھا والدین چُکال راروچنج نہ ایر کنانغتت خصوصاً گرمی ء موسم تھا کہ نواں اے بیمار سینتت اور بزرگان دین تہ رمضان ء مہیناء اترشیدائی استنتت کہ کم سنی تھا بہ سخت گرمی تھا شُزوتن برداستت کُڑتو روچنج ایر کنگنت اور اشی مکمل کنگے بہ اہتمام کنگنت۔ بایئے یک ایمان افروزیں واقعہ اشکونوں اور وئی تھا نیکیانی حرص پیدا کنوں۔ چنانچہ

اعلیٰ حضرت ء روچنج

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت مولانا امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ روزه کُشائی ء تقریب ء حال بیان کنانا مولانا سید ایوب علی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمائے نغیں کہ رمضان المبارک ء مقدسین مہینا استیں اور اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ روزه کُشائی ء تقریب استیں، لوع ء تھا ہاں جاگہ کہ افطار ء واسطہ دومی باز سامان است۔ تہ اودا فیرینی بہ یک کمرہ ء تھا محفوظ است۔ نیم روچنج است اور شدید گرمی بہ استیں اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ء والد گرامی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہماں کمرہ ء تھا برغیں دروازہ بند کُڑتو فیرینی ء یک پیالہ زُڑتو دینغیں کہ تو اشیار اور۔ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ گُشت مناراتہ روچنج استیں من چوں درال؟ ارشاد فرمانت کہ چُکانی روچنج اے وڑا ء سینتت، گور، من دروازہ بند کُڑتا، کوئی بہ نہ

رمضانَ را وش آتکے گُشے

چار نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانتا اللہ پاک تہ چار نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد محترم ء پچھاں شہ انزیر آنگخت اور کمرہء دروازہ پتچ کڑ تو در آتک۔ (حیات اعلیٰ حضرت ص ۸۷)

اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنتِ مصطفیٰ کا وہ پیکر
عالم دین، صاحبِ تقویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی

وشیں و شیں اسلامی، براباں! شما اشکڑتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسانئ شہ چتر دینداریں، شریعت ء پابندیں اور خوفِ خدا والا ئیں مرد مے است یقیناً اعلیٰ حضرت ء سر اللہ تعالیٰ ء خاص فضل و احسان است کہ ہمانہیا کہ سخت گرمی تہا بہ رمضان ء، مہینا تہا روجع ایر کنع ء اور روجع مکمل کنع ء قوت و ہمت عطا فرمانتا، لہذا مارا بہ لوئی کہ ما بہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقش قدم سر اجزانار رمضان ء مہینا قدر کنوں اور گرمی ء شدت رابر داشت کنانا یک روجع بہ نہ یلہوں ہر کسے رمضان شریف ء روجع بلا عذر یلہا اور رندا سجیں عمر روجع ایر کنت تہ بہ رمضان ء روجع ء فضیلت رانہ رست بی، چنانچہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ روایت استیں کہ سرکار مدینہ کرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرمانتا: ہر کسیار رمضان ء یک روچے روجع بہ بغیر رخصت اور بغیر مرض ء نہ ایر کڑتا تہ سجیں زمانہ ء روجع بہ اشئ قضانہ بوت یسنت اگرچہ رندا ایر بہ کنت۔ (بخاری، ۶۳۸/۱، حدیث: ۱۹۳۴)

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ روایت استیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرمان عبرت نشان استیں: **مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصْنِهِ فَفَقَدَ شَيْئًا** یعنی ہر کسے رمضان حاصل کڑتا اور اشئ روجع نہ ایر کڑتغت تہ ہماں شخص شقی (یعنی بد بخت) استیں۔ (معجم الاوسط، ۶۲/۳، حدیث: ۳۸۷۱)

دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو
جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے

(وسائل بخشش مرمم، ص ۷۰۶)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ دعوتِ اسلامی تحت مکتبۃ المدینہ شہ ہر عیسوی مہینہ شروع باز معلوماتِ سرا
مشتملیں "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" جاری بیغیں اشئ تہادراُالافتاءِ اہلسنتِ طرفہ شہ عام فہمیں اندازے
تہا تحریری فتویٰ بہ شامل کسغ بی۔ بیائے! مئی 2017ء ماہنامہ فیضانِ مدینہ صفحہ نمبر 54 سرا گر میانی
روحجی متعلق یک معلوماتی فتویٰ اٹکنوں۔

سوال: چے فرمانغنت علماء کرام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى اے مسئلہ متعلق کہ رمضان المبارک گرمیء موسم تہا
پیدائیں، چے سالانہ امتحانِ سبب طلبہ رمضانِ روچغانی قضا کسغ جائز استیں؟ اور ہماں والدیں کہ
چکانی اے فعلاگوں راضی سینت یاوت چکاں راروچج ایر کسغ شہ منع کنت تہ اشانی متعلق چے حکم
استیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ہر عاقل بالغ مسلمانے سرا رمضانِ روحج ایر کسغ فرض استیں، بلا عذرِ شرعی اشئ یلدغ گناہ
استیں اور سالانہ امتحانات یا گرمی شرعاً فرض روچج یلدغ واسطہ قابل قبول عذر نہیں للذا
بالغیں طلبہ تہ بیان کڑ تغیں اعذارِ مطابق فرضیں روچج یلدغ سرا گناہگار سینت اور اگر
والدین روچج نہ ایر کناہت یا یلدغ سرا بوجود قدرت خبر گیری نہ کنت تہ اے بہ گناہگار
سینت۔

طالب العلم نابالغ بیغ صورت تہا اگرچہ اشئ سرا روچج ایر کسغ فرض نہیں اور بلا عذر یلا بہ دا
تہ بہ گناہگار نہ بی لیکن چوں 7 سال چک راروچج ایر کسغ طاقت استیں تہ والدیں سرا لازم

رمضانَ را وش آتکے گُشے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! اللہ پاکِ عظیم میں شانِ سرا قربانِ بیسے کہ ہمانیا مارا قرآن و رمضانِ صورت تھا دو نور عطا فرمائے تھی کہ قبر و قیامتِ ہو کلنا کیں تھار دور سینت اور نور نور بی۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ اے دو میں نور قیامتِ روج مسلمانِ واسطہ قیامتِ روج اللہ پاکِ بارگاہ تہا سفارشی سینت، چنانچہ

دو میں جہانانی سردار، نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرمائیں: روج اور قرآن بندہِ واسطہ قیامتِ روج شفاعت کنت۔ روج عرض کنت: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ من اے بندہ ورغ اور خواہشاں شہ روچداشت منی شفاعت اشی حق تہا قبول فرمائیں۔ قرآن گشی: من اے شپ و اب کنگ شہ داشت، منی شفاعت اشی حق تہا قبول فرمائیں۔ بس دو میںانی شفاعت قبول سینت۔ (مُسْنَدُ اَحْمَد، ۵۸۶/۲، حدیث: ۶۶۳۷)

مسجد درس

وشیں و شیں اسلامی براتہاں! معلوم بوت کہ روج اور قرآن پاک قیامتِ روج مومنانی شفاعت کنت، لہذا رمضان شریف تہا خوش دلی، گوں تلاوت کنگ اور روج ایر کنگ، بیت کنت۔ روچغانی اور قرآن پاک تلاوتِ سر استقامت حاصل کنگ، واسطہ دعوتِ اسلامی مدنی ماحول گوں واسطہ بیسے اور 12 مدنی کارانی تہاک خوب حصہ گرے 12 مدنی کارانی تہاک مدنی کارے مسجد درس بہ استیں، الحمد للہ مسجد درس، برکت گوں علم دین، خزانہ دست کنت، علم دین و استاد بیغ، فضیلت بیان کنانا نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرمائیں: ہر کسے سونج نیکی و ستاد بیغ یا استاد کنگ شت ہمانی واسطہ مطلق حج کنوخیں وڑا، اجرا استیں۔ (التغیب والترہیب، ۱/ ۵۹) یک دومی مقامے سر ارشاد فرمائنتا: ہر کسے علم تلاش کنگ در کپت ہماں واپسی تک اللہ عَزَّوَجَلَّ راہ تہا استیں۔ (ترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، حدیث: ۲۶۴۷۔۔۔ ۱۹۱۸)

رمضان المبارک تھا مسجدانی رونق باز بیغیں مگر گُڈ بہ یک تعدادے استیں ہماں کہ مسجدِ حاضریءِ شہ محروم استنت، چوک درسِ ذریعہ ہماں مردماں را بہ روچغانی دعوت دیتے، نمازِ فضیلتاں و برکتاں بیاں کنے۔ ہماں نمازی کہ مسجدِ تہا پید اغنت ہما نہانی سرا بہ انفرادی کوششِ سلسلہ جاری کنے، پچھے کہ اثانی تہا بہ یک تعدادے استیں کہ ہماں صرف رمضان المبارکِ مہینا تہا پید اغنت اثاں را اے وڑاے شفقت و محبت دیتے کہ نہ صرف رمضان المبارک بلکہ سبجین سال واسطہ پکا سچائیں نمازی اور سنتانی عامل سینت۔

وشیں وشیں اسلامی براتاں! رمضان المبارکِ مہینا آخ شہ پیشتر ما بہ اے تیت کنوں کہ اے مہینا احترام کنانا نمازانی پابندیءِ گوں باز باز نفلی عبادت بہ کنوں اور قرآن پکا تلاوت بہ کنوں پچھے کہ چون بہ سیگیں کہ بعض مردم شروعِ تہا باز شوق و ذوق گوں تلاوت کغنت اور پدا اے سعادت شہ محروم بیغت، اے معاملہ تہا مارا لوٹی کہ ماوتی بزرگانی نقش قدم سرا جزوں کہ اے حضرات اے مقدسین مہینا تہا صرف یک مرتبہ نہ بلکہ یک روچے تہا کئی مرتبہ ختم قرآن کغنت حاصل کغنت، چنانچہ

سیدنا سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولات

حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کغیں کہ منی والد حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29، 27، 25، 21، تاریخ آں وقت تک روچغ افطار نہ کغنت اترا کہ قرآن پاک ختم نہ کُرتیں، مگر ب و عشاءِ درمیانی وقت تہا آخرت معاملانی تہا غور و فکر کغنت اور اکثر افطاریءِ وقت منارا گشتی کہ بور مسکیناں را بیار تا کہ آں بہ اشی ہمراہ افطاری کننت۔ (اللہ والوں کی باتیں، ۳/۲۴۷)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

مطبوعہ پبلیٹیٹ "رمضان میں گناہ کرنے والے کا بھیانک انجام" ہر ہر لوغار سینغہ کو شش کئے۔ زے نصیب! اے عاشقانِ رسولِ رادعوتِ اسلامیٰ تحت بیغ والا ئیں سبجین رمضان اور آخری عشرہءِ اعتکافِ دعوت بہ دیتے، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی تہا بیغ والا ئیں سبجین مہینہءِ عظیم الشانیں اعتکافِ دعوتِ راعام کئے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ مئے کی مدنی آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ یک مرتبہ شبِ قدر تلاش کنغہ واسطہ رمضان المبارکِ سبجین مہینہ بابہ اعتکاف فرمانتا۔ چنانچہ

اعتکافِ مصطفیٰ

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شہ روایت استیں کہ یک مرتبہ سلطانِ دو جہان، شہنشاہ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ یکم رمضان شہ 20 رمضان تک اعتکاف کنگ شہ رند ارشاد فرمانتا: من شبِ قدر تلاش کنغہ واسطہ رمضانِ اولیں اور کُڈ در میانی عشرہءِ اعتکاف کُرتا، کُڈ منا گوں حال بیانم بوت کہ شبِ قدر آخری عشرہ تہا استیں لہذا شائے تہا کسے مئی ہمراہ اعتکاف کنت تہ بھلے کنت۔ (مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر... الخ، ص 594، حدیث: 1167)

وشیں وشیں اسلامی براتیں! اگر ہر سال نہ سہی تہ زہے نصیب! زندگی تہا کم از کم یک مرتبہ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سنت ادا کنغہ بیت گوں رمضانِ سبجین مہینہءِ اعتکاف کنگہ بھر پور کوشش کئے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اعتکافِ برکت گوں بندہ نہ صرف گناہاں شہ محفوظ بی بلکہ اعتکاف شہ علاوہ ہماں نیکیاں کہ مسجد شہ در اُکُرت کنغہ اور نبی اعتکافِ سبب نہ کُرت کنغیں تہ ہماں نیکی بہ اشی نامہ اعمال تہا لکجا بیسنت، چنانچہ

قرآن پاکِ مشہوریں مفسر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرمائیں کہ اعتکافِ فوری فائدہ تہ اے استیں کہ معتکفِ راگناہاں شہ داری پچھے کہ اکثر گناہ دروغ، غیبت، چغلی

رمضانَ را وش آتکے گُشے

مردماں گوں میل میل پ گوں بیغنت اور معتکف تہ دنیا شہ کنارہ کش بیغیں اور ہر کسے اشیا گوں ملاقات کُغِے واسطہ کئے تہ ہماں بہ مسجد اور اعتکافِ لِحاظ کنت اور کوئی خرابیں گپے نہ کنت۔ (مزید فرمائیں) اعتکافِ سبب گوں ہماں نیکاں شہ کہ اے محروم بوت مثلاً قبرابی زیارت، مسلماناں گوں ملاقات، بہارِ خیریت معلوم کُغِ، نماز جنازہ تہا حاضری وغیرہ معتکف رآں کل نیکانی ثواب ملی۔

(مرآة المناجیح، ۲۱۷/۳، ملقطاً و ملخصاً)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ تبلیغ قرآن و سنتِ عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی تہ تحت دنیائے مختلفیں مکانی اور شہرانی تہا سبیں رمضان اور آخری عشرہِ اجتماعی اعتکافِ ترکیب استیں، اشی تہا دعوتِ اسلامی مرکزی مجلس شوریٰ طرفہ شہ ملتغیں جدول مطابق اعتکاف کنوخیں اسلامی براتانی مدنی تربیت کُغِے کوشش بی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اجتماعی اعتکاف تہا ہزاریں اسلامی برات اعتکاف کُغنت اور دیگر عبادتاں گوں علم دین بہ حاصل کُغنت اور سنتانی تربیت بہ حاصل کُغنت، اور بعضیں معتکفیں رمضانِ آخر تہا عاشقانِ رسولِ ہمراہ سنتانی تربیتِ واسطہ مدنی قافلہ تہا سفر کُغنت اور بعض اسلامی برات تہ مدنی قافلہ شہ رند مدنی کورس بہ کُغنت مثلاً (12 مدنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس، امامت کورس وغیرہ)۔

شما کل اسلامی برات بہ رمضان المبارکِ مہینا تہا اعتکاف کُغِے تبت کئے۔ اعتکافِ طریقہ کار اور فارم وغیرہ جمع کُغِے واسطہ اسلامی براتاں شہ ضرور معلوماً حاصل کئے۔ اللہ پاک مارا کلاں عمل کُغِے اور

سبیں مہینا اعتکاف کُغِے توفیق عطا فرمائی۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!

رمضانَ را وش آتکئے گُشے

دعوتِ اسلامیءِ ہفتہ وار اجتماعِ تباوانخِ والی 6 درود اور 2 دعا

1 جمعہء شبِ درود

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَالِي وَعَلَى الْاِيْمَةِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

بزرگاں فرمائنتا کہ ہر کسے جو شبِ (جمعہ اور جمعراتِ نیامی شبِ) اے درود شریف پابندی گوں کم از کم یک مرتبہ وانی تہ موتِ وقت سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ءِ زیارت کنت اور قبرِ تہاد اخل بیغِ وقت بہ بچاری کہ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشیارِ قبرِ تہاوتی رحمتِ شہ پُریں دستان گوں ایر کنغیں۔

(2) تمام گناہ معاف بیئت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْاِيْمَةِ وَسَلِّمْ

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شہ روایت استیں کہ تاجدارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمائنت: ہر کسے اے درود پاک وانی جکسیا تہ نندا شہ پیشت اور نشتیا تہ جکغا شہ پیشتر اشی گناہ معاف بیئت۔

(3) رحمتِ ستر دروازہ:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

ہر کسے اے درود پاک وانی ہماہی سر رحمتِ 70 دروازہ پچ بیئت۔

(4) شش لکھ درود شریفِ ثواب

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً اَدْبَابًا بِدَوَامِ مُدْكِ اللّٰهِ

حضرت احمد صاوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بعضیں بزرگاں شہ نقل فرمائیں کہ: اے درود شریفِ رایک مرتبہ وانگا گوں شش لکھ درود شریف وانغے ثواب حاصل بی۔

رمضانِ را وش آتکے گُشے

(5) **قربِ مصطفیٰ** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضٰى لَهُ

یک روچیا یک مرد مے حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اے شخصِ راوتی اور صدیقِ اکبرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نیاما نندینت۔ اشیاگون صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ را باز حیرانی بوت کہ اے شانِ والا میں شخص کئے استیں! چوں اے روانہ بوت تہ سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمائنتا: چوں اے منی سرارود شریف وانی تہ اے وڑا وانی۔

(6) **درودِ شفاعت**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْبَقْعَدَ الْبُقْرَبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شافعِ اُمم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ءِ فرمانِ مُعْظَمِ استیں: ہر کسے اے وڑا درود پاک وانی، ہماہی واسطہ منی شفاعت واجب بی روی۔

(7) **یک ہزار روچ تک نیکی**

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهُ

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا شہ روایت استیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائنتا: اشیاراوانونے خاطر (70) فرشتہ یک ہزار روچ تک نیکیاں لکنت۔

گویا شب قدر حاصل کُرتا!

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ہر کسے اے دعا 3 مرتبہ وانٹ گویا آہنیا شب قدر حاصل کُرتا

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ!